

29 جون 2018

برامپٹن ساکر سنٹر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں

برامپٹن، آن – برامپٹن ساکر سنٹر کو اندرونی/ بیرونی کئی کھیلوں والی ایک سہولت گاہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کئی تجدیدی تبدیلیاں موجودہ طور پر زیر عمل ہیں اور بیرونی جگہوں کا استعمال کرنے کے لیے اگلے سال ایک نیا گنبد اور گھاس والے دو نئے میدان بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں کو 9 جولائی کو شام 6 تا 8 بجے تک سنٹر میں منعقد کی جانے والی عوامی معلوماتی نشست میں مزید جاننے کی دعوت دی جاتی ہے۔

اندرونی تجدیدی تبدیلیاں

جیسا کہ مختلف کھیلوں کی شہرت حالیہ سالوں میں تبدیل ہو گئی ہے، پورے شہر میں جمینیزیم کی جگہ کا مطالبہ بڑھ گیا ہے۔ فیلڈ ہاؤس ڈی، جسے اکثر عارضی جمینیزیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کو حالیہ طور پر نیا فرش ڈال کر ایک نیم مستقل جمینیزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔

جم کا نیا فرش جگہ کے معیار کو بہتر بنائے گا اور ایسے کھیلوں کی سہولیات میں اضافہ کرے گا، جو اس مقام پر کھیلے جا سکتے ہیں، جس سے ٹورنامنٹس اور دیگر تقریبات کے انعقاد کے لیے ایک اہم اور اضافی جگہ میسر آئے گی۔ اگر کھیلوں کے کسی بڑے موقع کے لیے ضروری ہو، تو فرش کو اکھاڑا بھی جا سکتا ہے۔

بیرونی تجدیدی تبدیلیاں

فیلڈ کے اوپر ایک نیا اور موسم سے محفوظ گنبد، پورے سال استعمال کے لیے بنایا جائے گا۔ ٹوم ہر سال نومبر سے اپریل تک فیلڈ کو ڈھانپے گا۔ کھلاڑیوں کو بیت الخلاء اور کپڑے تبدیل کرنے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹوم کے قریب ایک چھوٹی بیرونی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ قریبی گھروں پر اثرات کو کم سے کم رکھنے کے لیے گنبد کو فیلڈ پر رہائشی گھروں سے زیادہ سے زیادہ دور مقام پر لگایا جا رہا ہے۔

اس کے علاوہ، دو بیرونی میدانوں کو لائٹوں کے ساتھ مصنوعی گھاس والے میدانوں میں تبدیل کیا جائے گا، تاکہ یہ میدان کئی کھیلوں کے لیے موزوں ہوں، ان میں کھیلنے کا دورانیہ بڑھایا جا سکے اور بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل میں کمی آئے گی۔

تعمیرات کا کام مکمل ہو جانے پر سہولت گاہ کا نام تبدیل کر کے "برامپٹن اسپورٹس سنٹر" رکھ دیا جائے گا، تاکہ سنٹر کا نیا نام پیش کی جانے والی متعدد کھیلوں کی سہولیات کی بہتر عکاسی کرے۔

اقتباسات

"رہائشیوں اور صارف گروہوں نے پارکس اینڈ ریکریٹیشن ماسٹر پلان کی تیاری کے دوران ہمیں بتایا کہ ہمیں پورے شہر میں کھیل کی سہولت گاہوں میں تنوع کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ برامپٹن ساکر سنٹر میں تبدیلیاں اس مقام پر ہمارے لیے کھیلوں کے مزید انتخابات لائیں گی، تاکہ کمیونٹی کی بہتر خدمت کی جا سکے اور ایک چست، صحت مند طرز زندگی کی حمایت کی جا سکے۔"

- میئر لنڈا جیفری

برامپٹن پڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔